

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن

جامعہ ملیہ اسلامیہ

جون 25, 2020

پریس ریلیز

جامعہ کے شعبہ فائن آرٹ اور حمیدیہ گرلز پی جی کالج کے زیر اہتمام آن لائن مشاعرے کا انعقاد

فیکلٹی آف فائن آرٹ ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ پینٹنگ اور حمیدیہ گرلز پی جی کالج ، الہ آباد یونیورسٹی کے زیر اہتمام ایک آن لائن مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ اس مشاعرہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اسے خواتین نے منعقد کیا تھا اور بڑی تعداد میں خواتین شعراء ہی شریک تھیں۔

اس مشاعرے کا مقصد نوجوانوں کے اندر زبان و ادب کا ذوق پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور حمیدیہ کالج کے مابین دیرینہ رشتہ کی یاد تازہ کرنا تھا۔ اس مشاعرے کی صدارت پروفیسر شہزاد انجم نے کی۔ انہوں نے ادب اور زبان میں خواتین کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ زبان اور ادب کی ترقی میں خواتین نے کو کردار ادا کیا ہے اسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خواتین نے ہر زمانے میں ادب کی قندیل روشن کی ہے جس سے علمی و ادبی کہکشاں جگمگاتا رہا ہے۔

مشاعرے کا آغاز حمیدیہ گرلز کالج کی منیجر مسز احسن اللہ کے افتتاحی کلمات سے ہوا، پروفیسر نذرت کاظمی فیکلٹی آف فائن آرٹ نے جامعہ اور حمیدیہ کالج کے مابین رشتوں پر روشنی ڈالی۔ مشاعرے کا آغاز پروفیسر سوویتا سنگھ کے کلام سے ہوا۔ مشاعرے میں پروفیسر فرحت نسرین ، فردوس عظمت صدیقی ، اپرنا دیکشت ، شمشا سنگھ ، ڈاکٹر سجاتا ، ڈاکٹر نصیب ، ڈاکٹر نبیلہ صادق ، زرینہ ، روبینہ ایاز ، ڈاکٹر یوسفہ نفیس ، ڈاکٹر صبیحہ اعظمی ، پروفیسر سدرہ اور ڈاکٹر ارم عثمانی وغیرہ نے اپنا کلام پیش کیا اور ادب و زبان سے متعلق باریکیوں پر گفتگو کی جس سے ناظرین کافی محظوظ ہوئے۔

خیال رہے حمیدیہ ڈگری کالج کا جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ساتھ پرانا تعلق ہے ، خواجہ عبد المجید کی اہلیہ (جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں میں سے ایک) بیگم خورشید خواجہ نے حمیدیہ کالج کی بنیاد رکھی تھی۔ کالج (ابتدائی طور پر یہ لڑکیوں کا اسکول تھا) 1932 میں پٹھار گلی کے مسلم اکثریتی علاقے میں جب نیشنلسٹ تحریک عروج پر تھی اور قومی اسکولوں میں ہندوستانی طلباء کو تعلیم فراہم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس اسکول نے طلباء کے اندر قومی حمیت کو بیدار کرنے اور ان کے اندر وطن دوستی کا جذبہ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا جو آج بھی پورے زور و شور سے جاری ہے۔

احمد عظیم

پی ار او۔ میڈیا کوآرڈینیٹر